

حصہ انشائیہ

(Part-I) حصہ اول

Q.NO. 2 Write short answers of any Six parts

2 x 6 = 12

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے

سوال نمبر 2

Define exchange bank	زر مبادلہ کے بینک کی تعریف کیجئے	-1
Define memorandum of bank	بینک کے آئین کی تعریف کیجئے	-2
Define mortgage bank	رہن کے بینک کی تعریف کیجئے	-3
Define investment bank	سرمایہ کاری بینک کی تعریف کیجئے	-4
Write down the names of method of formation of bank	بینک کے قائم کرنے کے طریقوں کے نام تحریر کیجئے	-5
Define goldsmith	سنار کی تعریف کیجئے	-6
Define prospectus	پیش نامہ کی تعریف کیجئے	-7
What is meant by promoters ?	بانیان سے کیا مراد ہے ؟	-8
Define industrial bank	صنعتی بینک کی تعریف کیجئے	-9

Q.NO. 3 Write short answers of any Six parts

2 x 6 = 12

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے

سوال نمبر 3

Define Debit Card	ڈیبٹ کارڈ کی تعریف کیجئے	-1
What are the benefits of Clearing House ?	حساب گھر کے کیا فوائد ہیں ؟	-2
Define Cheque Book	چیک بک کی تعریف کیجئے	-3
What is meant by foreign currency account ?	غیر ملکی کرنسی کے کھاتہ سے کیا مراد ہے ؟	-4
Define bank customer	بینک کے گاہک کی تعریف کیجئے	-5
What is meant by minor customer of bank ?	بینک کے نابالغ گاہک سے کیا مراد ہے ؟	-6
Define security	کفالت کی تعریف کیجئے	-7
How does a bank use the funds ?	بینک اپنے فنڈز کس طرح استعمال کرتا ہے ؟	-8
Define marketable securities	قابل فروخت کفالتوں کی تعریف کیجئے	-9

Q.NO. 4 Write short answers of any Six parts

2 x 6 = 12

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے

سوال نمبر 4

Define the term " Credit "	اصطلاح " اعتبار " کی تعریف کیجئے	-1
Define bearer cheque	حامل چیک کی تعریف کیجئے	-2
What is meant by promissory note ?	تحریری وعدہ سے کیا مراد ہے ؟	-3
What is meant by bill of exchange ?	ہنڈی سے کیا مراد ہے ؟	-4
What is meant by endorsement of cheque ?	چیک کی تصدیق سے کیا مراد ہے ؟	-5
Define foreign bill of exchange	غیر ملکی ہنڈی کی تعریف کیجئے	-6
Define rate of exchange	شرح مبادلہ کی تعریف کیجئے	-7
Define spot rate of exchange	سپاٹ شرح مبادلہ کی تعریف کیجئے	-8
Define commercial letter of credit	تجارتی اعتباری خط کی تعریف کیجئے	-9

(PART II) حصہ دوم

NOTE : Attempt any Three questions from this part

8 x 3 = 24

نوٹ : اس حصہ میں سے کوئی سے تین سوالات حل کیجئے

Write the main functions of the Central Bank	مرکزی بینک کے بنیادی فرائض بیان کیجئے	سوال نمبر 5
Discuss the qualities of a good banking system	ایک اچھے نظام بنگاری کی خصوصیات بیان کیجئے	سوال نمبر 6
Differentiate the current account and saving account in detail	چلت کھاتہ اور بچت کھاتہ میں فرق تفصیلاً بیان کیجئے	سوال نمبر 7

وقت = 20 منٹ ، کل نمبر = 15

حصہ معروضی

BANKING بنکاری

نوٹ : ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر پائین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا

سوال نمبر 1

- 1- Which method is used for the formation of bank ?
(A) شہنشاہ کے حکم سے (B) Royal order خصوصی آرڈیننس سے (C) Special ordinance کمپنی آرڈیننس سے (D) Company ordinance
(D) ان تمام طریقوں سے All these
- 2- Which document indicates the authority and limitations of bank ?
(A) بینک کا آئین (B) Bank Memorandum بینک کے قواعد و ضوابط (C) Bank articles سرٹیفکیٹ آف ان کارپوریشن (D) Certificate incorporation
(D) پیش نامہ Prospectus
- 3- Bank is a institution
(A) مالیاتی (B) Financial سماجی (C) Social دینی (D) Religious یہ تمام (D) All of these
- 4- Current account is suitable for
(A) سرمایہ دار (B) Capitalists تنخواہ دار (C) Salaried persons کاروباری طبقہ (D) Business community ان میں سے کوئی نہیں None of these
- 5- Which function does central bank perform ?
(A) تخلیق زر (B) Credit creation قرض دینا (C) Advancing loan بنکوں کا آخری سہارا (D) Lender of last resort عوام کا بینک Bank of public
- 6- How many types of loan are issued by the bank according to term ?
(A) 5 (B) 2 (C) 3 (D) 4 مدت کے لحاظ سے بینک کے جاری شدہ قرضوں کی مشہور اقسام کتنی ہیں ؟
- 7- Long term period consists of
(A) دنوں پر (B) Days مہینوں پر (C) Months سالوں پر (D) Years یہ تمام (D) All of these
- 8- Cheque can be crossed
(A) مرتب کنندہ (B) Drawer مرتب الیہ (C) Drawee قابض (D) Holder یہ تمام (D) All of these
- 9- A person who writes bill is called
(A) مرتب الیہ (B) Drawer مرتب کنندہ (C) Payee وصول کنندہ (D) Acceptor قبول کنندہ
- 10- Cheque is a written order drawn on
(A) تصدیق الیہ کے نام (B) Endorsee بینک کے نام (C) Bank گاہک کے نام (D) Customer یہ تمام (D) All of these
- 11- E-Banking provides benefits to the
(A) اکھائڈ دار کو (B) Account holder بینکار کو (C) Banker معیشت کو (D) Economy یہ تمام (D) All of these
- 12- Which of the given rate keeps the balance of payments in equilibrium ?
(A) شرح کوئی (B) Discount rate شرح سود (C) Interest rate شرح مبادلہ (D) Exchange rate شرح بازار Market rate
- 13- What is the nature of credit instrument I.O.U ?
(A) ایک ہی مضمون کی تحریر (B) A monograph ایک ہی شخص سے لکھی ہوئی تحریر (C) A holograph جانچنے اور قلمبند کرنے کا آلہ (D) A sonograph ان میں سے کوئی نہیں None of these
- 14- A bank receives on issuing a letter of credit
(A) منافع (B) Profit سود (C) Interest کمیشن (D) Commission یہ تمام (D) All of these
- 15- Foreign exchange control reduces the
(A) گردش کو کم کرنا (B) Circulation of capital برآمد کو روکنا (C) Export of capital درآمد کو روکنا (D) Import of capital ان میں سے کوئی نہیں None of these